

| CADMUM SULPHATE  | کینیم سلفیٹ  | ICSC: 1318   |
|--|--|--|
| CAS # 10124-36-4<br>RTECS # EV2700000<br>UN # 2570<br>EC # 048-009-00-9<br>EINECS# 233-331-6<br>UN Hazard class: 6.1             | دیگر نام:<br>Cadmium sulfate<br>فارمولہ: CdSO <sub>4</sub><br>سالمانی دن: 208.5  |  |
| ابتدائی طبی امداد اور آگ پر قابو پانہ<br>آگ کے قرب و بوار میں پھینکنے کی صورت میں تمام بھانے والے مادے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ | بچاؤ   | شدید نظرات \ علامات<br>خطے کی قسم<br>آگ:                         |
|  |  | دھاکہ:   |
| ہر حالت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں!<br>تازہ ہوا میں لے جائیں، آرام دلائیں طبی<br>نگداشت کا انتظام کریں                               | چھونے سے سختی سے پرہیز کریں<br>لوکل ایگرداست یا آلات تفس استعمال<br>کریں   | جم میں داغنا: سانس کے راستے:                                     |
| جلد پر وافر مقدار میں پانی بھائیں یا شاور<br>کے نیچے لے جائیں  | ٹھانٹی دستاں نے استعمال کریں   | جلد کے راستے:  |
| پہلے کئی منٹ تک پانی سے اچھی طرح<br>دوہیں پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔   | آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ آلات<br>تفس یا ٹھانٹی چیزے استعمال کریں  | آنکھوں میں پڑنا:   |
| پانی سے منہ اندر سے صاف کریں۔ طبی<br>نگداشت کا بندوبست کریں۔   | کام کے دوران خود دونوش اور سکریٹ<br>نوشی مت کریں کھانے سے پہلے ہاتھ<br>دوہیں   | نگلنے کی صورت میں: پیٹ میں کھچاؤ۔ متنی .. صدمہ یا شدید<br>نفاحت۔ |
| پیکٹ کرنا اور لیبل لگانا:  | بکھرنے کی صورت میں اقدامات:  |  |
| سمدری پانی کو آلووہ کرتا ہے۔ خوارک یا جانوروں کی فیڈ کے ساتھ بار برداری نہ کریں  | گرے ہوئے مادے کو سیل ہونے والے برتوں میں اکھٹا کریں ضرورت ہو تو<br>پہلے گلیا کر لیں تاکہ گرد نہ اٹھے احتیاط کے ساتھ بقیہ مادے کو اکھٹا کریں۔ پھر اس<br>کو محفوظ جگہ پر لے جائیں۔ اس کیمیکل کو ماہول میں داخل نہ ہونے دیں کیمیائی<br>حفاظت کا لباس مع خود کار آر ٹفس استعمال کریں |  |
| ذخیرہ کرنا:  | ہنگامی اقدامات:  |  |
| اس کو اچھی طرح بند رکھیں   | Transport Emergency Card: TEC (R)-[61G64c]   |  |
| اہم معلومات پشت پر ملاحظہ فرمائیں  |  |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| CADMIUM SULPHATE  | کیمیم سلفیٹ   | ICSC: 1318  |
| اہم معلومات   |   |   |
| <p>جسم میں داغنے کے راستے: یہ مادہ جسم میں سانس کے ذریعے نگلنے پر جذب ہو سکتا ہے</p> <p>سانس کے راستے داغنے کے اثرات: 20 منٹی گرید پر تغیر براۓ نام ہے لیکن بچھیرنے پر ہوا میں ذرات کی مقدار خطرناک حد کو چھو سکتی ہے</p> <p>مختصر مدت کے لیے جسم میں داغنے کے اثرات: سانس کی نالی میں سوزش پیدا ہوتی ہے</p> <p>طویل مدت کے لیے جسم میں داغنے کے اثرات: یہ مادہ گردوں اور گجر پر اثر انداز ہو سکتا ہے یہ مادہ غالبا طور پر انسانوں کو کینسر کرتا ہے جو عحالت پر زخموں پر منتفہ ہو سکتا ہے</p> | <p>طبعی حالت: سفید قلمیں</p> <p>کیمیائی خطرات: گرم کرنے سے زہریلے مخاراث بننے ہیں۔</p> <p>ہوا میں مقررہ حدود: TLV [(as TWA)]: ppm; [0.01] mg/m<sup>3</sup> [as Cd, A2] (ACGIH (1998)</p>  |   |
| طبعی خواص   |   |   |
|   | <p> نقطہ پگھلاو: [ 1000 ] [ منٹی گرید ]</p> <p> کثافت اضافی (بال مقابل پانی = 1): 4.7 g/m<sup>3</sup></p> <p> 0 منٹی گرید پر پانی میں حل پذیری (گرام فی 100 ملی لٹر): 75.5</p>  |   |
| ماخیانی اعداد و شمار  |   |   |
| <p> یہ مادہ آبی جانداروں کے لئے زہریلا ہے۔ خوارک کے سلسلے میں انسانوں کے لئے اہم ہے کہ کسی کڑی میں اس کا ذخیرہ ہو سکتا ہے: غاص طور پر پودوں میں اس کا سختی سے خیال رکھیں کہ یہ مادہ ماحول میں داخل نہ ہو کیونکہ یہ ماحول میں لمبے عرصے تک موجود رہتا ہے۔</p>  |   |   |
| نوٹس (Notes)  |   |   |
| مزید معلومات:   |   |   |
| LEGAL NOTICE  | Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information.   |   |
| © IPCS, CEC 1999  |   |   |
| IPCS<br>International<br>Programme on<br>Chemical<br>Safety   |      | Prepared in the context of cooperation between the International Programme on Chemical Safety and the Commission of the European Communities C IPCS, CEC 1999 |